



کبڑی بچنے والی (The Junk Seller)



کیا آپ کسی کبڑی والی سے ملے ہیں۔ وہ عورت جو کبڑی بچتی ہے؟ یہ کرن کے ذریعہ سنائی گئی ایک سچی کہانی ہے، جس کی پٹنہ میں ایک کبڑی کی دوکان ہے۔

میں اپنے گاؤں میں ایک ہندی میڈیم اسکول میں پڑھتی تھی۔ میرے والد چاہتے تھے کہ لڑکیاں لڑکوں کی طرح تعلیم حاصل کریں۔ مجھے ہندی اور سائنس اچھی لگتی تھی لیکن میں ریاضی سے نفرت کرتی تھی! آج ریاضی ہمارے کام میں سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ جس کے بارے میں میں نے اسکول میں سوچا بھی نہ تھا



تم اپنے بارے میں بتاؤ؟ کیا تم کو بھی ریاضی مشکل لگتی ہے؟

تمہاری ریاضی کی کتاب میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟

تمہاری نظر میں سب سے آسان سبق کون سا ہے؟



جب میں چھوٹی تھی، ایک حادثہ میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے میری ماں کچھ گھروں میں نوکرانی کا کام کرتی تھی۔ ہم لوگوں کے دن بہت مشکل اور تکلیف دہ تھے۔ مجھے آٹھویں جماعت کے بعد پڑھائی چھوٹی پڑی۔ میں اور زیادہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن میری ماں نے میری شادی کر دی۔



میرے شوہر کا خاندان ایک کچے گھر میں رہتا تھا۔ ان کے دو بھائی اور بہن اسکول نہیں جاتے تھے۔ ان کی ایک چائے کی دوکان تھی۔

معلوم کیجیے: ایک پیالی چائے کی قیمت کیا ہے؟

لوگوں سے پوچھیے اور پتہ لگائیے کہ ایک پیالی چائے کی کیا قیمت ہے؟


_____ ★
کسی چائے کی دوکان پر

_____ ★
کسی ہٹول میں

اگر کوئی چائے کی دوکان چلانے والا شخص ایک دن میں 30 روپے کرتا ہے تو وہ 10
دنوں میں کتنا کمائے گا؟ _____

اور ایک مہینے میں؟ _____

آپ کو جواب کیسے حاصل ہوا؟ بحث کیجیے۔



میں نے خود تجارت شروع کرنے کی سوچی۔ میں نے سوچا کہ میں یا تو چوڑی کی دوکان کروں گی یا پھر درزی کی۔ لیکن میرے چھپانے بتایا کہ ہم لوگ ایک کبڑی کی دوکان کھول کر زیادہ کمائے سکتے ہیں۔ 2001ء میں، میں اور میری ساس نے مل کر ایک کبڑی کی دوکان کھولی۔ دوکان کے لیے ہم لوگوں نے 8000 روپیہ قرض لیا۔



معلوم کیجیے: قرض کیا ہے؟

★ کیا آپ نے کبھی کسی کو قرض لیتے ہوئے سنا ہے؟

_____ ★
کس چیز کے لیے؟

_____ ★
کتنا قرض لیا گیا تھا؟

_____ ★
کتنی رقم واپس کی گئی تھی؟

ہریا اور بابو 300 روپے میں ایک ٹھیلا خریدنا چاہتے ہیں۔



لیکن میں نے چوتھی لال سے
300 روپیہ قرض لیا ہے۔ چھ
ماہینوں کے بعد میں اسے 360
روپیے واپس کروں گا۔

میں نے ایک بینک سے 6 ماہینوں
کے لیے 300 روپیے قرض لیا ہے۔
میں بینک کو ہر ماہینہ 51 روپیے ادا
کروں گا۔



کس کو زیادہ رقم واپس کرنی ہوگی۔ ہریا کو یا بابو کو؟

لوگ ہمارے کام کے لیے ہمیں چڑھاتے ہیں اور ہم پر ہستے ہیں۔ وہ لوگ اسے گندا کام یا گندی تجارت کہتے ہیں۔ لیکن میں ایسا نہیں سوچتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ خیال کام کرے گا۔



اب ہم لوگوں کے پاس مع بھلی کے ایک پکا گھر ہے۔ ہم لوگوں کے پاس ایک فرنج، ایک ٹیلی ویژن اور ایک گیس کا چولہا ہے۔ میرے شوہر کے بھائی، بہن اور میری بیٹی بھی اسکول جاتے ہیں۔



میرے اپنے 9 رکشے ہیں۔ میں ہر رکشا 20 روپے فی دن کی شرح سے کرایہ پر دیتی ہوں۔ میں اتوار کو ان لوگوں سے کوئی رقم نہیں لیتی ہوں۔

ایک دن میں 9 رکشا سے کرن کتنا کمائی ہے؟
ایک رکشا سے وہ روزانہ 20 روپے پاتی ہے۔
اس لیے 9 رکشوں سے وہ کمائے گی _____ روپیہ۔

آپ نے یہ کیسے معلوم کیا؟

لیکن میں اسے زیادہ آسمانی سے کر سکتا ہوں۔
10 رکشا کے لیے اسے 20 روپیہ \times 10 = 200 روپے ملے گا۔
اس لیے 9 رکشا کے لیے اسے ملے گا۔
 $= \underline{\hspace{2cm}} - 200 \text{ روپے}$



اڑے میں اسے ایسے کروں گا۔
2 کا 9 گنا 18 ہے۔
اس لیے 20 کا 9 گنا 180۔

اسے کرنے کے لیے کچھ دوسرے طریقوں پر غور کیجیے۔

اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بچوں کو خود کے طریقہ کار کا استعمال کرنے کے لیے بہت افزائی کریں۔ اس پر بحث ہونی چاہیے کہ وہ لوگ اپنے جوابات تک کیسے پہنچے ہیں۔

★ ایک رکشا سے کرن ایک ہفتہ میں کتنا کمائی ہے؟

★ اس کو دماغ سے سوچیں اور جوابات لکھیں۔

$4 \times 80, 4 \times 81$
سے 4 زیادہ ہے۔ کیا میں
صحیح ہوں؟

$$4 \times 80 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$4 \times 81 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$20 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$9 \times 25 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2 \times 60 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$31 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$3 \times 42 = \underline{\hspace{2cm}}$$



میری اپنی کبڑی کی چھوٹی سی دوکان ہے۔ میں کبڑا جمع کرنے والوں سے کبڑا خریدتی ہوں۔ وہ لوگ گھر
جاتے ہیں اور ٹھیلے پر کبڑا لاتے ہیں۔ پھر میں اسے بڑی دوکان پر نیچ دیتی ہوں۔

اس کبڑے کے لیے کتنا ادا کرنا ہے؟

کرن نے کبڑا اکٹھا کرنے والوں سے کچھ کبڑا خریدا۔

آج کی قیمت جاننے کے لیے فہرست قیمت پر نظر ڈالیے۔ کبڑا
کی قیمت معلوم کرنے میں کرن کی مدد بھیجیے۔

1 کلوگرام اخبار کی قیمت 5 روپے ہے۔

30 کلوگرام کی قیمت $5 \times 30 = 150$ روپے

اس لیے 31 کلوگرام کے لیے وہ ادا کرتی ہے

روپے۔

* 31 کلوگرام کے لیے کرن کتنا ادا کرے گی؟

یہ مشترکہ کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار (معیاری قواعد کے علاوہ) کا استعمال کرنے کے لیے بچوں کی بہت افزائی کرتی ہے۔

* 42 کلوگرام اخبار کے لیے کرن کتنی رقم ادا کرے گی۔

* مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کیجیے:

22 (a) کلوگرام پلاسٹک

23 (b) کلوگرام روپی کاغذ

12 (c) کلوگرام لوہا

اندازہ لگائیجئے کہ کرن کبा�ڑا کٹھا کرنے والوں کو کتنے روپے دے گی۔ کیا وہ 600 روپے سے زیادہ ادا کرے گی؟
600 روپے سے کم ادا کرے گی؟



فہرست قیمت

کبा�ڑے کی قسم 1 کلوگرام کی قیمت

1	روپی کاغذ	4
2	اخبار	5 روپے
3	لوہا	12 روپے
4	پیتیل	170 روپے
5	پلاسٹک	10 روپے

کیا آپ بغیر لکھے کر سکتے ہیں؟

ذہین کرن کبा�ڑپختی ہے۔

کرن اپنا کبा�ڑ ایک بڑی دوکان پر پختی ہے، وہ اپنے موبائل پر قیمتیں چیک کرتی ہے اور تب ہی پختی ہے جب اس کو اچھی قیمت ملتی ہے۔

آج وہ پلاسٹک، اخبار، لوہا اور پیتیل بیچنے دینوں کی بڑی دوکان پر گئی۔

دینوں نے 32 کلوگرام لوہا، 4 کلوگرام پیتیل، 152 کلوگرام اخبار، 63 کلوگرام پلاسٹک تو لا۔



A. 63 کلوگرام پلاسٹک کے لیے دینو کتنی رقم ادا کرے گا۔

دینو کی فہرست قیمت

کھاڑی کی قیمت 1 کلوگرام کی قیمت

- اخبار.....	6 روپے	1
- لوہا.....	14 روپے	3
- پیتل.....	180 روپے	4
- پلاسٹک.....	12 روپے	5
- رُدی کاغذ.....	4.50 روپے	6

ایک کلوگرام پلاسٹک کی قیمت 12 روپے ہے۔

اس لیے 63 کلوگرام پلاسٹک کی قیمت ہوگی 12×63 روپے۔

یاد کیجیے؛ آپ نے درجہ سوم میں دو اعداد کو ضرب کرنے کے لیے خانوں کا استعمال کیا تھا۔

60	3
60×10	3×10
600	30
60×2	3×2
120	6

دینو نے خانوں میں اعداد کو جوڑا۔

$$\begin{array}{r}
 600 \\
 120 \\
 30 \\
 + 6 \\
 \hline
 756
 \end{array}$$

12×63 سے مراد ہے 63 کا 12 گنا ہے 720۔ اس لیے جواب 720 سے زیادہ ہے۔ جواب 800 سے کم بھی ہے۔ کیا آپ بتاسکتے ہیں کیوں؟



اس لیے 63 کلوگرام پلاسٹک کے لیے، دینو 756 روپے دے گا۔

* کرن 10 روپے میں 1 کلوگرام پلاسٹک خریدتی ہے، لیکن 1 کلوگرام پلاسٹک 12 روپے میں پیچتی ہے۔

1 کلوپلاسٹک بچ کروہ کتنے روپے کماتی ہے؟ _____ روپیہ۔

اس لئے، 63 کلوگرام پروہ کتنے روپے کماتی ہے؟ _____ روپیہ۔

B. کرن 32 کلوگرام لوہا بیچتی ہے۔

* 32 کلوگرام لوہے کے لیے دینو کتنے روپیے ادا کرے گا؟

* کرن 12 روپے میں 1 کلوگرام لوہا خریدتی ہے مگر اسے 14 روپیے میں بیچتی ہے۔

وہ کتنا کماتی ہے جب وہ 32 کلوگرام لوہا بیچتی ہے؟ _____ روپیے

C. 152 کلوگرام اخبار کے لیے دینو کتنے روپیے ادا کرے گا؟

1 کلوگرام اخبار کی قیمت 6 روپیے ہے۔ اس لیے 152 کلوگرام اخبار کی قیمت ہے 152×6 روپیے۔

دینو لکھتا ہے:

	100	50	2
6	100×6	50×6	2×6
	600	300	12

پھر وہ اعداد کو خانوں میں جوڑتا ہے:

$$\begin{array}{r}
 600 \\
 300 \\
 + 12 \\
 \hline
 912
 \end{array}$$

میں نے 5 روپیے میں 1 کلوگرام اخبار خریدا لیکن 6 روپیے میں بیچا۔ 152 کلوگرام اخبار بیچ کر میں نے کتنے روپیے کمائے؟ _____ روپیے



اس لیے 152 کلوگرام اخبار کے لیے وہ کرن کو 912 روپیے دے گا۔

D. دینو پیتل کے لیے کتنا ادا کرتا ہے؟

4 کلوگرام پیتل کے لیے دینو کتنے روپیے ادا کرے گا؟ _____



پہلے جواب کا
اندازہ لگائیں۔

پہلے جواب کا اندازہ کیجیے پھر حل کیجیے:

$$= 142 \times 5 \quad (a)$$

$$= 382 \times 3 \quad (b)$$

$$= 2 \times 175 \quad (c)$$

$$= 4 \times 206 \quad (d)$$

$$= 37 \times 18 \quad (e)$$

$$= 45 \times 24 \quad (f)$$

$$= 69 \times 52 \quad (g)$$

$$= 77 \times 55 \quad (h)$$

میری ڈائری بھریے

کرن نے کبڑا اکٹھا کرنے والوں سے کچھ کبڑا خریدا۔ اس نے ان لوگوں کو 841 روپیے ادا کیے۔ اس نے اس کبڑا کو دینوکی بڑی دوکان پر بیچا اور دینو نے کرن کو یہ نوٹ اور سکے دیے۔

کے 6 نوٹ



کے 8 نوٹ



کے 3 نوٹ



کے 7 نوٹ



کے 6 نوٹ
کے 4 سکے



کرن نے اپنی ڈائری میں رکارڈ کیا۔

رقم جو میں نے ادا کی — 841 روپیے

2007ء 11

روپیے 600 — رقم جو میں نے حاصل کی

— 150

— 140

— 60

— 40

— 4

کل: روپیے 994

994

— 841 روپیے

رقم جو میں نے کمالی 153

بعد میں اس نے کبڑا اکٹھا کرنے والوں کو 919 روپیے دیے۔ جب اس نے اس کبڑے کو بیچا تو دنیو سے اسے یہ نوٹ اور سکے ملے۔

کے 28 سکے

کے 18 نوٹ

کے 5 نوٹ

کے 9 نوٹ

کے 16 نوٹ

اب آپ اس کی ڈائری میں ریکارڈ لکھیے۔

معلوم کیجیے کہ اس بار اس نے کتنے روپیے کمائے۔

18 مارچ 2007